

English to Urdu Sentences

Anything else to do for me.

میرے لائق کچھ حکم۔

Why are you doing like this?

آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟

What should I do now?

اب میں کیا کروں؟

No! I don't have mind to go
outside.

نہیں یار! آج میرا گھر رہنے کا من ہے۔

If you will go then I will go.

اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا۔

English to Urdu Sentences

This is out of my mind.

یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے۔

It is scorching sun outside..

باہر تو بہت تیز دھوپ نکل رہی ہے۔

Fear Allah.

اللہ سے ڈرو۔

I'll be back after offering
the prayer.

میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔

Catch you up later.

بعد میں ملتے ہیں۔

English to Urdu Sentences

Can it be solved?.

اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟

Get off my back.

میرا پیچھا چھوڑ دو۔

Should I go now?

کیا میں جا سکتا ہوں اب؟

Why did he let you do this?

اس نے آپکو ایسا کیوں کرنے دیا؟

Had you right to do like
this?

کیا آپکا اس طرح بات کرنے کا حق بنتا تھا؟

English to Urdu Sentences

It is scorching sun outside.

باہر تو بہت تیز دھوپ نکل رہی ہے۔

Fear Allah.

اللہ سے ڈرو۔

I'll be back after offering the
prayer.

میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔

Catch you up later.

بعد میں ملتے ہیں۔

Should I go now?

کیا میں جا سکتا ہوں اب؟

English to Urdu Sentences

It is scorching sun outside.

باہر تو بہت تیز دھوپ نکل رہی ہے۔

Hey, you are really so smelly.

بہت گندی بدبو آ رہی ہے تجھ میں۔

I can't sleep without you.

میں آپ کے بغیر نہیں سو سکتا۔

I had a car.

میرے پاس ایک گاڑی تھی۔

He caught me by hidden eye.

اس نے مجھے چوری چوری دیکھ لیا۔

English to Urdu Sentences

I have a word with you.

مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔

I am going to be married today.

میری آج شادی ہے۔

You are feeling happier for
what?

آپ کو اتنی خوشی کس بات کی ہے؟

Don't laugh.

دانت مت دکھاؤ۔

It was my compulsion.

میری مجبوری تھی۔

English to Urdu Sentences

What is he to you?

وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟

How much were you involved in
it?

آپ کی اس میں کتنی مرضی تھی؟

Let you say something.

تم کچھ کہہ سکتے ہو۔

His wound started getting worst.

اس کا زخم اور بھی بڑھتا چلا گیا۔

What can I do now?

میں کیا کر سکتا ہوں اب؟

English to Urdu Sentences

Only that way it could be solved if
you share it with me.

اگر کچھ بتاؤ گے ہی تو حل نکل سکتا ہے۔

The boy is crying for nothing.

بچہ بلا وجہ رو رہا ہے۔

Let it go dear.

جانے دو مجھے پیارے۔

Don't mess with me.

میرے دماغ کی دہی مت بناؤ۔

Do Whatever you want.

جو دل میں آئے کرو۔

English to Urdu Sentences

Try to understand my situation.

میری حالت سمجھنے کی کوشش کریں۔

Who am I to forgive you?

میں کون ہوتا ہوں تمہیں معاف کرنے والا؟

I am looking for a chance to teach.

میں پڑھانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہوں۔

I seem to have made a mistake.

مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کوئی غلطی کی ہے۔

I can understand your helplessness.

میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتا ہوں۔

English to Urdu Sentences

Why do you take offense?

تم برا کیوں مناتے ہو؟

Be seated, please.

تشریف رکھیں۔

Make my bed.

میرا بستر لگا دو۔

It will cost you.

یہ بات تمہیں مہنگی پڑے گی۔

I will be ready in a moment.

میں ابھی تیار ہوتا ہوں۔

English to Urdu Sentences

Shall I leave or stay?

میں جاؤں یا ٹھہروں؟

I shall deal with you later.

میں تم سے بعد میں نمٹوں گا۔

He has gone back from his word.

وہ اپنے وعدے سے پھر گیا۔

He had all but died.

وہ مرتے مرتے بچا۔

He is very impatient with children.

وہ بچوں سے بہت گھبراتا ہے۔

English to Urdu Sentences

I shall rather die than beg.

میں بھینگ مانگنے پر مرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔

My tooth is aching.

میرا دانت درد کر رہا ہے۔

Get lost at once.

فورا دفعہ ہو جاؤ۔

He is not home.

وہ گھر پر نہیں ہے۔

Don't argue with me.

میرے ساتھ بحث مت کرو۔

English to Urdu Sentences

I have no interest in politics.

مجھے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔

We are absolutely with you.

ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں۔

He is bent on going abroad.

وہ ملک سے باہر جانے پر تلا ہوا ہے۔

Are you acquainted with him?

کیا تم اس سے واقف ہو؟

O.k. let it be so.

چلو ایسا ہی سہی۔

English to Urdu Sentences

There is no way left now.

اب کوئی راستہ باقی نہیں۔

What a fascinating sight!

! کتنا دلکش نظارہ ہے

I could not recall his name.

مجھے اسکا نام یاد نہ آسکا۔

It is an alarming news.

یہ ایک تشویشناک خبر ہے۔

Let go my arm.

میرا بازو چھوڑو۔

English to Urdu Sentences

Everybody can not be trusted.

ہر شخص پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔

I have so much to talk to you.

مجھے تم سے بہت باتیں کرنی ہیں۔

I have to get a haircut.

مجھے بال کٹوانے ہیں۔

You just tell me what I asked.

اتنا بتاؤ جتنا پوچھا ہے۔

Joking a part, it is true.

مذاق کے علاوہ یہ سچ بات ہے۔

English to Urdu Sentences

The ring is not coming off.

رنگ نہیں اتر رہی۔

You become sad for no reason.

تم بلا وجہ اداس ہو جاتے ہو۔

Fair enough.

یہ بھی ٹھیک ہے۔

Let's go fifty-fifty.

چلو آدھا آدھا کرتے ہیں۔

It's out of question.

سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

English to Urdu Sentences

All his hopes were dashed to the ground.

اس کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں۔

He is engrossed in his study.

وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہے۔

Who is he to you?

وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟

Is there anything left?

کیا کچھ بچا ہے؟

Give me your hand.

میری مدد کرو۔

English to Urdu Sentences

I found him weeping.

میں نے اسے روتے ہوئے پایا۔

What the heck!

کیا مصیبت ہے!

This is between you and me.

یہ آپ کے اور میرے بیچ ہے۔

Is he offended with you?

کیا وہ تم سے ناراض ہے؟

Any scoop?

کوئی نئی تازی؟

English to Urdu Sentences

I am not bound to tell you anything.

میں تمہیں کچھ بتانے کا پابند نہیں ہوں۔

Experience is the best teacher-

زمانہ بہترین استاد ہے۔

A gesture is more than enough to the
wise.

عقلمند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔

Why didn't you wake me up?

آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟

He is bound to his nature.

وہ اپنی عادت سے مجبور ہے۔

English to Urdu Sentences

یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔

It can happen with anybody.

Get your mind fixed first.

پہلے اپنا دماغ درست کرواؤ۔

Everything is fair in distress.

مجبوری میں سب جائز ہے۔

He is exemplary.

وہ اپنی مثال آپ ہے۔

Don't mess with my mind.

میرے دماغ کی دہی مت بناؤ۔